



جس نہ اذان سنت وقت یہ دعا پڑھی: "اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ، وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ" (ا اللہ! اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب! محمد کو قرب اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر کھڑا کر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے) اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: "جس نے اذان سنت وقت یہ دعا پڑھی: "اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ، وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ" (ا اللہ! اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب! محمد کو قرب اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر کھڑا کر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے) اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی"

[صحیح] [رواہ البخاری]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس نے مؤذن کی اذان سنت کے بعد یہ دعا پڑھی: (اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ) یعنی اذان کے یہ کامل الفاظ، جن کے ذریعے اللہ کی عبادت اور نماز کی جانب بلایا جاتا ہے اور کھڑی ہونے والی نماز، جو ہمیشہ پڑھی جاتی رہے گی، کے رب! "آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ" محمد کو جنت کا وہ اونچا مقام عطا فرما، جو آپ کے علاوہ اور کسی کو زیب نہیں دیتا اور دیگر مخلوقات کے مراتب سے اعلیٰ مرتبہ عطا فرما "وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ" اور انہیں مقام محمود عطا کر، جس کا تو نے ان سے یہ دعا فرما کر وعدہ کیا ہے: "عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا" (عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا) جس نے یہ دعا پڑھی، وہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حق دار ہو گا اور اس کے لیے آپ کی شفاعت واجب ہو جائے گی

<https://www.sunnah.global/hadeeth/ur/show/10635>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

